

ع ل و Root:

Words from this Root in the Grand Qur'an:

a) Total occurrences: 70

b) No of constructions: 35

Nouns: 23; Recurrence: 41; Verbs: 12; Recurrence: 29 {Form-I: 6; Form-VI: 22; Form-X: 1}

Ibn Faris [died 1005] stated:

(مقاييس اللغة)

(عَلَوُ) الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ يَاءٌ كَانَ أَوْ وَاوًا أَوْ أَلِفًا، أَصْلُهُ وَاحِدٌ يُدُلُّ عَلَى السُّمُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ، لَا يَشُدُّ عَنْهُ شَيْءٌ

That it leads to the perception of eminence, loftiness, sublimity, elevation, exaltation, and uprise; such exaltation and grandeur that nothing can deviate from it.

Lane Lexicon: *It (a thing, Msb) was, or became, high, elevated, or lofty; he was, or became, high, or elevated, or exalted, in dignity, or nobility*

تَعَالَى - تَعَالَى - فَتَعَالَى

Verb [Intransitive]: Perfect; Third person; Singular; masculine; [Form-VI]. The basic meanings of this Form of Verbs is "Reflexive Causative to be Active Participle"

This verb has occurred 14 times in the Grand Qur'an, mostly interjectionally [something said loudly and abruptly, or something inserted in a text, especially something that interrupts what is being said or alleged]. The greatest lies which the ruling elite of human societies have conjectured in time and space attributing to Allah the Exalted, are two:

(a) they sculpted idols and assigned them hypothetical feminine names and declared those to people as various iela'aha associating them as partners with Allah, the Exalted;

(2) later on they concocted the conjectural concept that Allah the Exalted, has adopted son and daughters.

Nouns

1	<p style="text-align: center;">الْأَعْلَوْنَ</p> <p>Elative Noun: Definite; plural; masculine; nominative. (1)3:139(2)47:35=2</p> <p style="text-align: center;">جمع مذكر-مرفوع-معرفة باللام:اسم التفضيل</p>	
2	<p style="text-align: center;">الْأَعْلَى</p> <p>Elative Noun: Definite; singular; masculine; nominative/genitive, (1)16:60(2)20:68(3)30:27(4)37:08(5)53:07(6)79:24(7)92:20=7</p> <p style="text-align: center;">واحد مذكر-مجرور/مرفوع-معرفة باللام:اسم التفضيل</p>	
3	<p style="text-align: center;">الْأَعْلَى</p> <p>Elative Noun: Definite; singular; masculine; genitive, with prolongation sign. (1)38:69=1</p> <p style="text-align: center;">واحد مذكر-مجرور-معرفة باللام:اسم التفضيل</p>	
4	<p style="text-align: center;">الْأَعْلَى</p> <p>Elative Noun: [Superlative]: Definite; singular; masculine; genitive.(1)87:01=1</p> <p style="text-align: center;">واحد مذكر-مجرور-معرفة باللام:اسم التفضيل</p>	
5	<p style="text-align: center;">الْعَالِينَ</p> <p>Active Participle: Definite; Sound plural; Masculine; Genitive;</p>	

	(1)38:75=1 (Verbal Noun) عَلُوٌّ - مصدر) جمع سالم مذكر-مجرور -معرفه باللام:اسم فاعل	
6	الْعُلَى Comparative & superlative Noun: Definite; plural; feminine; accusative. (1) 20:04=1 مؤنث-جمع-منصوب-معرفه باللام:اسم التفضيل كا صيغه	
7	الْعَلَى Comparative & superlative Noun: Definite; plural; feminine; nominative (1) 20:75=1 مؤنث-جمع-مرفوع-معرفه باللام:اسم التفضيل كا صيغه	
8	الْعَلِيُّ Adjective resembling participle on مَعْيَرٌ measure: Definite; Masculine; singular; nominative. (1)2:255(2)22:62(3)31:30(4)34:23(5)42:04=5 واحد مذكر-معرفه باللام مرفوع-:الصفة المشبهة	
9	الْعَلِيُّ Adjective resembling participle on مَعْيَرٌ measure: Definite; Masculine; singular; genitive. (1)40:12=1 واحد مذكر-مجرور-معرفه باللام-:الصفة المشبهة	
10	الْعَلِيَا Comparative & superlative Noun: Definite; singular; feminine; accusative. (1)9:40=1 مؤنث-واحد-منصوب-معرفه باللام:اسم التفضيل كا صيغه	
11	الْمُتَعَالِ Active Participle: Definite; Singular; Masculine; Nominative; [Form VI]; "the ى at the end is dropped". (1)13:09=1 باب تَفَاعَلٍ /واحد مذكر-مرفوع-معرفه باللام:اسم فاعل	The Exclusively most exalted Dominant.
12	عَالِيَا Active Participle: Indefinite; Singular; Masculine; accusative. (1)44:31=1 واحد مذكر-منصوب :اسم فاعل	
13	عَالِيَةً Active participle: Indefinite; feminine; singular; genitive (1)69:22(2)88:10=-2 واحد مؤنث-مجرور:اسم فاعل	
14	عَالِينَ Active Participle: Indefinite; sound plural; masculine; accusative; (1)23:46=1 جمع سالم مذكر-منصوب :اسم فاعل	
15	عَالِيَهَا Possessive Phrase: Active Participle: Definite; Singular; Masculine; accusative + Possessive pronoun: Third person; Singular; Feminine, in genitive case. (1)11:82(2)15:74=2 ضمير متصل واحد مؤنث غائب +مضاف /واحد مذكر-منصوب :اسم فاعل -الإضافة مضاف إليه- في محل جر	

16	عَلَيْهِمْ Possessive Phrase: Active Participle: Definite; Singular; Masculine; accusative + Possessive pronoun: Third person; plural; masculine; in genitive case. (1)76:21=1 ضمير متصل جمع مذكر غائب غائب في +مضاف /واحد مذكر-منصوب :اسم فاعل -الإضافة مضاف إليه-محل جر
17	عُلُوًّا Verbal noun used adverbially; accusative (1)17:04(2)17:43(3)27:14(4)28:83=4 منصوب :مصدر
18	عَلِيٌّ Adjective resembling participle on فَعِيلٌ measure: Indefinite; Masculine; singular; nominative. (1)42:51=1 واحد مذكر--مرفوع-:الصفة المشبهة
19	عَلِيًّا Adjective resembling participle on فَعِيلٌ measure: Indefinite; Masculine; singular; accusative. (1)4:34(2)19:50(3)19:57=3 واحد مذكر-منصوب-:الصفة المشبهة
20	عَلِيُونَ Adjective resembling participle on فَعِيلٌ measure: Indefinite; Masculine; plural; nominative.(1)83:19=1 جمع مذكر--مرفوع-:الصفة المشبهة
21	عَلِيِينَ Adjective resembling participle: Indefinite; masculine; plural; accusative (1)83:18=1 جمع مذكر-منصوب-:الصفة المشبهة
22	لَعَالٍ Emphatic Particle-distanced + Active Participle: Indefinite; Singular; masculine; nominative (1)10:83=1 اسم فاعل +المزحلقة -لام التوكيد واحد مذكر-مرفوع
23	لَعَلِيٌّ Prefixed particle of emphasis + Adjective resembling participle on فَعِيلٌ measure: Indefinite; Masculine; singular; nominative. (1)43:04=1 واحد مذكر--مرفوع-:الصفة المشبهة -لام التوكيد

Verbs Form-I

1	تَعْلُوا Verb: Imperfect; Second person; plural; masculine; Mood: Jussive by Prohibitive Particle, evident by elision of نَ and [و] Subject Pronoun, nominative state; مصدر عُلُوًّا Verbal noun. (1)27:31(2)44:19=2 -والألف-ضمير متصل في محل رفع فاعل -و/فعل مضارع مجزوم بلا و علامة نصب حذف النون جمع مذكر حاضر/فارقة
2	عَلَا Verb: Perfect; Third person; Singular; Masculine; [intransitive]; Subject Pronoun hidden; مصدر عُلُوًّا Verbal noun; (1)28:04=1

	ضمير مستتر جوازاً: الفاعل/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر واحد مذكر غائب-هُوَ: تقديره	
3	عَلَوْا Verb: Perfect; Third person; plural; masculine; [و] Subject Pronoun, in nominative state; مصدر -مَعْلُو Verbal noun. (1)17:07=1 جمع مذكر غائب/فارقة-والألف-ضمير متصل في محل رفع فاعل -و/فعل ماضٍ	
4	لَتَعْلَنَّ Prefixed Emphatic Particle + Verb: Imperfect; Second person; plural; masculine; Mood: Indicative; [و] Subject Pronoun elided;; Suffixed Energetic Nun; مصدر -مَعْلُو Verbal noun (1)17:04=1 فعل مضارع مرفوع مبني على حذف النون لاتصاله /اللام واقعة في جواب قسم محذوف بنون التوكيد الثقيلة جمع مذكر حاضر /والواو المحذوفة فاعل والضممة علامة لها والنون للتوكيد	
5	لَعَلَّا Prefixed particle of emphasis + Verb [Intransitive]: Perfect; third person; singular; masculine; مصدر -مَعْلُو Verbal noun. (1)23:91=1 واحد مذكر غائب-صيغة/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر -لام التوكيد	

Verbs Form-VI

1	تَعَالَوْا Verb: Imperative; Second person; plural; masculine; [Form VI]; [و] Subject Pronoun; مصدر -مَعْلُو Verbal noun. (1)3:61(2)3:64(3)3:167(4)4:61(5)5:104(6)6:151 (7)63:05=7 فعل أمر مبني على حذف النون لأنّ مضارعه من الأفعال الخمسة باب تَفَاعَلٍ /جمع مذكر حاضر/فارقة-والألف-ضمير متصل في محل رفع فاعل -و	
2	تَعَالَى Verb [Intransitive]: Perfect; Third person; Singular; Masculine; [Form-VI]; Subject Pronoun hidden; مصدر -مَعْلُو Verbal noun. (1)6:100(2)10:18(3)16:01(4)16:03(5)17:43(6)28:68(7)30:40(8)39:67(9)72:03=9 واحد -هُوَ: ضمير مستتر جوازاً تقديره: الفاعل/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر باب تَفَاعَلٍ -مذكر غائب	
3	تَعَالَى Verb [Intransitive]: Perfect; Third person; Singular; Masculine; [Form-VI]; مصدر -مَعْلُو Verbal noun; used interjectionally something said loudly and abruptly, or something inserted in a text, especially something that interrupts what is being said or discussed (1)27:63=1 واحد: صيغة/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر باب تَفَاعَلٍ -مذكر غائب	
4	فَتَعَالَى Prefixed conjunction ف which shows cause/reason and effect + Verb [Intransitive]: Perfect; Third person; Singular; Masculine; [Form-VI]; Subject Pronoun hidden; مصدر -مَعْلُو Verbal noun. (1)7:190(2)20:114(3)23:116=3 واحد: صيغة/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر +حرف ف	

	باب تَفَاعَلٌ -مذکر غائب	
5	<p>فَتَعَالَى Prefixed conjunction ف which shows cause/reason and effect + Verb [Intransitive]: Perfect; Third person; Singular; Masculine; [Form-VI]; Subject Pronoun hidden; مصدر Verbal noun. (1)23:92=1</p> <p>-هُوَ:ضمیر مستتر جوازاً تقدیره:الفاعل/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر +حرف ف باب تَفَاعَلٌ -واحد مذکر غائب</p>	
6	<p>فَتَعَالَيْنَ Prefixed conjunction ف which shows cause/reason and effect + Verb: Imperative; Second person; plural; feminine; [Form VI]; Suffixed Subject Pronoun in nominative state; مصدر Verbal noun. (1)33:28=1</p> <p>جمع -ضمیر متصل في محل رفع فاعل: نَنْ /فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة +حرف ف باب تَفَاعَلٌ -مؤنث حاضر</p>	

Verbs Form-X

1	<p>أَسْتَعْلَى Verb: Perfect; Intransitive; Third person; singular; masculine; [Form-X] Subject Pronoun hidden; مصدر Verbal noun. (1)20:64=1</p> <p>واحد -هُوَ:ضمیر مستتر جوازاً تقدیره:الفاعل/فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر باب إستفعال-مذکر غائب</p>	
---	---	--

Surah Bani Israel and Surah Taha contain 5 words each derived from root letters (ع ل و).

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

علی اور کبیر اللہ کی صفات ہیں جن کو اکثر اوقات دوسرے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سارے اوصاف طاقت اور تسلط کی صفات کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کے بہت ہی الگ مقام اور کام ہیں۔ الاعلیٰ وہ وصف ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسمانی موجودگی اور اس کا اخلاقی کمال تخلیق شدہ مخلوقات کی حدود سے بہت اوپر ہے۔ آیت الکرسی اس اہمیت کی نشاندہی کرنے کے لئے اس وصف پر ختم ہوئی ہے۔ الکبیر نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مخلوق کے لئے کسی بھی معاملے کو قانون بنانے کا اعلیٰ ترین آئینی اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کتنی بڑی چیز، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ یا کوئی مشکل جو ہمارے سامنے آسکتی ہے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قدرت اور عظمت ان کو شکست دینے کے ان کے طریقوں کے بارے میں اتنا کامل ہے کہ بنی نوع انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

الکبیر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔

الکبیر کے معنی بہت ہی بڑا، جس کی شان و شوکت کے سامنے بڑے سے بڑا بھی حقیر ہے۔

الکبیر لغت میں اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو۔ اور اس سے بھی بڑا ہو کہ اس کی کبریائی اور عظمت کا کوئی احاطہ کر سکے۔ اور وہ اپنی مخلوق کی مشابہت سے بھی بڑا ہو۔ ارض و سماء اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اشیاء اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں جس طرح ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (غافر: ۲۱)

یہ تمہیں (اس لئے کہا جا رہا ہے) کہ جب وہ اللہ اکیلا پکارا گیا تم نے کفر کیا۔ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے۔ پس حکم اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو بلند شان والا بڑائی والا ہے۔

العلی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔

“العلی کے معنی ”بلند، سب سے بلند۔

بہت ہی زیادہ بلند مرتبہ والا، جس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی بلندی کا علم ہے۔ اسے ہر لحاظ سے مطلق بلندی حاصل ہے۔ ذاتی طور پر بھی علو اور صفات اور قدر و منزلت کا علو، غلبہ و اقتدار کا علو۔ وہی عرش پر مستوی ہے اور اقتدار کا مالک ہے۔ وہ عظمت، کبریائی، جلال اور کمال کی تمام تر صفات سے بہرہ ور ہے جن کے آگے کمال کا کوئی درجہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (غافر: ۲۱)

پس حکم اللہ ہی کے لئے ہے جو بلند شان والا اور کبریائی والا ہے۔

اور اللہ عزوجل نے فرمایا:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الاعلیٰ: ۱)

(اے پیغمبر) اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔

اور اللہ سبحانہ نے فرمایا:

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ (الرعد: ۹)

وہ دانائے نہاں و آشکار ہے سب سے بزرگ (اور) بلند شان والا ہے۔

وہ (اللہ) مخفی اور موجود اشیاء کا عالم ہے۔ وہ بہت بڑا اور عالی مرتبت ہے۔ ان اسماء کا مفہوم یہ ہے علو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے یعنی وہ اوپر ہو اور بلند ہو گیا۔ کیونکہ وہ سب مخلوقات سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ وہ اپنی صفات اور اپنی تقدیر کے لحاظ سے بھی عالیشان ہے تبھی اس کا کوئی مماثل نہیں وہ اپنے قہر کے اعتبار سے بھی عالی ہے۔ کہ جو اپنی عزت اور علو کے ذریعے تمام مخلوقات پر غالب ہے۔

الْمَلَا' الْأَعْلَى

The phrase al-mala' al-a'laa is mentioned in both the Qur'aan and the Sunnah.

In Soorat Saad, Allaah says (interpretation of the meaning):

"I had no knowledge of the chiefs (angels) on high when they were disputing and discussing (about the creation of Adam). Only this has been inspired to me, that I am a plain warner."

[Saad 38:69-70]

In his commentary on this aayah, Shaykh al-Mufasssireen Ibn Jareer al-Tabari (may Allaah have mercy on him) said: " 'I had no knowledge of the chiefs on high (al-mala' al-a'laa) when they were disputing and discussing': here Allaah is telling His Prophet Muhammad (Peace & Blessings of Allaah be upon Him), 'O Muhammad, say to the mushrikeen among your people: "I had no knowledge of the chiefs (angels) on high when they were disputing and discussing" about the creation of Adam before Allaah revealed this to me.' What this means is: 'My telling you about this is clear proof that this Qur'aan is a Revelation from Allaah, because you know that I had no knowledge of this before this Qur'aan was revealed; it is not something I witnessed with my own two eyes – I know it only because Allaah has informed me of it.'"

Other scholars of tafseer have said something similar.

The comments of other scholars:

Ibn 'Abbaas said: "Allaah's words (interpretation of the meaning) 'I had no knowledge of the chiefs on high when they were disputing and discussing' refer to the angels, when they were consulted about the creation of Adam, and they disputed it and said: Do not place a khaleefah on earth."

Al-Saddi said: "... The chiefs on high when they were disputing and discussing' means: '... when your Lord said to the angels: "Verily, I am going to place (mankind) generations after generations on earth"...' [al-Baqarah 2:30]"

Qutaadah said: "The words 'I had no knowledge of the chiefs on high when they were disputing and discussing' refer to the angels, who disputed the creation of Adam when Allaah said to them, (interpretation of the meaning) 'Truly, I am going to create man from clay' [Saad 38:71]."